

Prime Minister, Shri Narendra Modi holds talk with President of the European Commission, Ursula Von der Leyen in New Delhi

April 25, 2022

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے یورپی کمیشن کی صدر اُرسولا وون ڈر لیئن کے ساتھ نئی دہلی میں گفت و شنید کا اہتمام کیا

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج یورپی کمیشن کی صدر محترمہ اُرسولا وون ڈر لیئن کا خیر مقدم کیا۔

وزیر اعظم نے اس سال رائے سینا ڈائلاگ میں افتتاحی خطبہ کی رضامندی دینے کے لیے یورپی کمیشن کی صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ آج، بعد ازاں ان کا خطبہ سننے کے لیے پرجوش ہیں۔

دونوں قائدین نے اتفاق کیا کہ بڑے اور فعال جمہوری معاشرے کے طور پر، بھارت اور یورپ متعدد عالمی مسائل پر یکساں اقدار اور مشترکہ نقطہ نظر ساجھا کرتے ہیں۔

انہوں نے ایک آزاد تجارتی معاہدے اور سرمایہ کاری معاہدے پر آئندہ مذاکرات کے ازسر نو آغاز سمیت بھارت - یورپی یونین کلیدی شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ بھارت - یورپی یونین تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کو سیاسی سطح کی نگرانی فراہم کرنے اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کے درمیان تال میل کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تجارتی اور تکنالوجی کمیشن قائم کیا جائے۔

دونوں قائدین نے گرین ہائیڈروجن جیسے شعبوں میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان اشتراک کے امکانات سمیت موسمیات سے متعلق مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیالات کیے۔ انہوں نے کووڈ-19 کے جاری خطرے پر بھی تبادلہ خیالات کیے اور دنیا کے تمام تر حصوں تک ٹیکوں اور معالجاتی خدمات کی مساویانہ رسائی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر زور دیا۔

اس کے علاوہ، میٹنگ کے دوران اہم جغرافیائی سیاسی امور پر تبادلہ خیالات کیے گئے، جن میں یوکرین کی صورتحال اور بھارت - پیسفاک خطے میں رونما ہونے والے واقعات جیسے موضوعات بھی شامل ہیں۔

نئی دہلی

مئی 25، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.